



25.07.2016

Appellant in person present. Appeal was requisitioned for today which was fixed for 27.09.2016 at Camp Court D.I.Khan. Appellant submitted an application for withdrawal of the instant appeal as his grievances have been redressed by the respondent-department. Signature of appellant secured on the margin of order sheet. The appeal is dismissed as withdrawn. File be consigned to the record room.

ANNOUNCED  
25.07.2016



MEMBER



MEMBER

من ایسا کیس عالیہ میں طاسا ہوں  
دیکھنے عالیہ آئی، سوچ میں  
D.I.Khan

کفر عباد - عمر ملک ڈی ایچ خان پتہ 32/16  
صاب عالی

کڑاٹھ فیملہ سائل ماسروس بحال ہو گیا ہے

اسئلہ سائل الیازمہ سائل قابل کس نمبر 32/16


بنامہ عمران 721 CTD سب سائل بحال کر دیا

اسئلہ آپ صاحبان سے کڑاٹھ بیجانی ہے کہ سائل کا


کس WITH Draw کی جاوے

سائل آپ صاحبان کا مسئلہ  
ایسا

الگارہی



لنٹیل عمر عمران 721 CTD دیرہ اسماعیل خان



OFFICE OF THE  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
Central Police Office, Peshawar

No. SI/ 4573 /16, Dated Peshawar the 14/06/2016.

ORDER

This order is hereby passed to dispose of departmental appeal under Rule 11-A of Khyber Pakhtunkhwa Police Rule-1975 submitted by Ex-Constable Imran No. 721. The appellant was dismissed from service by SP / CTD Malakand Swat vide order Endst: No. 616 / CTD Swat, dated 31.08.2015, on the charges that he was transferred on complaint basis to CTD Malakand with the direction to be kept under watch and was posted in PS CTD Malakand at Swat in Operation Wing. On 26.04.2015 he absented himself for a period of 03 months and 28 days.

His appeal was filed / rejected by DIG / CTD vide OB No. 317 / CTD, dated 08.12.2015.

Meeting of Appellate Board was held on 12.05.2016 wherein appellant was heard in person. Petitioner contended that he was ill and doctor advised him bed rest. He has qualified recruit course and A-I Examination. Keeping in view 08 years and 01 month service at his credit and plea of illness the Board decided that the petitioner is hereby reinstated into service and the intervening period including period of absence from duty be considered in service but not on duty. He will not be entitled for salary of the intervening period.

This order is issued with the approval by the Competent Authority.

*but will be Re-instated  
Ctd. Hqs Peshawar  
14/8/16  
SI/4574-80/16*

(NAJEEB-UR-REHMAN BUGVI)  
AIG/Establishment,  
For Inspector General of Police,  
Khyber Pakhtunkhwa,  
Peshawar.

*16/6*

Copy of the above is forwarded to the:

1. DIG / CTD, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. SP / CTD, Malakand Swat.
3. PSO to IGP/Khyber Pakhtunkhwa, CPO Peshawar.
4. PA to Addl: IGP/HQrs: Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
5. PA to DIG/HQrs: Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
6. Office Supdt: E-IV CPO Peshawar.
7. Central Registry, CPO.

*REC-DAS-ACC-SEC*  
*Addl IGP/CTD -*  
*16/6*

26.01.2016

Appellant Deposited  
Security & Process Fee

Counsel for the appellant present. He submitted that the appellant was recruited in the year 2007 as Constable in KPK Police, the appellant who belong to District D.I.Khan was transferred to Swat district where he was regularly performing his duty. Unfortunately his small daughter fell ill at D.I.Khan and the concerned officer did not allow him to come for his ailing child and he rushed to D.I.Khan. But unfortunately he was proceeded departmentally. He further submitted that no opportunity of defence or personal hearing has been provided to the appellant nor he was associated with any enquiry proceedings. The learned counsel submitted that the appeal is within time. Points raised need consideration. The appeal is admitted for regular hearing subject to all legal objections. The appellant is directed to deposit security and process fee within 10 days. To come up for progress report and written reply on 26.4.16 at camp court, D.I.Khan.

  
MEMBER  
Camp Court, D.I.Khan

26.04.2016



Appellant in person present. Representative of the respondents are not present, however Mr. Farhaj Sikandar, GP for respondents. Fresh Notice be issued to the respondents for submission of written reply/comments. To come up for written reply/comments on 27.09.2016 at camp court D.I. Khan.

  
Member  
Camp Court D.I. Khan

Form- A  
FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No. 32 / 2016

| S.No. | Date of order Proceedings | Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate   |
|-------|---------------------------|--|
| 1     | 2                         | 3  |
| 1     | 07.01.2016                | <p>The appeal of Mr. Muhammad Imran resubmitted today by Mr. Muhammad Ismail Alizai Advocate may be entered in the Institution register and put up to the Worthy Chairman for proper order.</p> <p style="text-align: right;"><br/>REGISTRAR</p> <p>This case is entrusted to Touring Bench D.I.Khan for preliminary hearing to be put up thereon <u>26.1.16</u>.</p> <p style="text-align: right;"><br/>CHAIRMAN</p> |
| 2     |                           |  |

The appeal of Mr. Muhammad Imran Constable No. 721 CTD Unit Malakand received to-day i.e. on 07.01.2016 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellant for completion and resubmission within 15 days.

- 1- Copy of Impugned order dated 31.8.2015 mentioned in the heading of appeal are not attached with the appeal which may be placed on it.
- 2- Copy of departmental appeal is not attached with the appeal which may be placed on it.

No. 46 /S.T,

Dt. 7/1 /2016

  
REGISTRAR  
SERVICE TRIBUNAL  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
PESHAWAR.

Mr. Muhammad Ismail Alizai  
Advocate High Court D.I.Khan.

Sir,

Resubmitted after doing the  
needful please ~~place~~ the case  
before the court.

  
Appellant

7

①

**BEFORE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA, PESHAWAR**

Service Appeal No. 32 /2016.

Muhammad Imran, PC / CTD No.721.

Appellant.

Versus

Provl: Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, and others.

Respondents.

Service Appeal

**I N D E X**

| <u>S.No.</u> | <u>Description of Documents</u>              | <u>Annexure</u>    | <u>Page(s)</u> |
|--------------|--|--------------------|----------------|
| 1.           | Petition with Grounds of Appeal & affidavit. | --                 | 02 — 05        |
| 2.           | Copies of Charge sheet, Order impugned etc.  | A, <del>2000</del> | 06 — 20        |
| 3.           | Copy of Deptl: appeal / <i>Order</i>         | <u>B+C</u>         | 21 — 22        |
| 4.           | Vakalat-Nama                                 | --                 | 23 — 25        |

Dated: 06 .01.2016.

(Muhammad Imran) Appellant  
Through Counsel

*Muhammad Ismail Alizai*  
(Muhammad Ismail Alizai)  
Advocate High Court, DIKhan.

**BEFORE SERVICE TRIBUNAL, KHY:PAKHTUNKHWA,PESHAWAR.**

Service Appeal No:.....32...../2016.

M.W.F. Provincial  
Service Tribunal  
Diary No 19  
dated 07-1-2016

Muhammad Imran,  
Constable No.721, CTD Unit, Malakand.  
Office of SP / CTD, Malakand.  
Presently, Gali Datt-wali, Mohallah Khidmatgaranwala,  
City D.I.Khan.

(Appellant)

Versus

1. The Provincial Police Officer (IGP), KPK,  
Central Police Office, Peshawar.
2. Deputy Inspector General of Police / Counter Terrorism Deptt,  
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar,
3. Superintendent of Police , CTD, Malakand Region, At Swat.

(Respondents)

*Note: The addresses given above are sufficient for the purpose of service.*

.....

7/1/16

**SERVICE APPEAL AGAINST (1) ORDER DTD 31.08.2015 WHEREBY  
THE APPELLANT IS AWARDED PUNISHMENT BY RESPDT: NO. 3 OF  
REMOVAL FROM SERVICE & (2) FINAL ORDER DTD. 8.12.2015 OF  
RESPONDENT NO.2 WHEREBY DEPARTMENTAL APPEAL WAS  
REJECTED.**

Respectfully Sheweth: -

The appellant very humbly submits as under: -





**BRIEF FACTS:**

1. That during the year 2007 the petitioner was inducted in Police Department as Constable and initially posted at D.I.Khan. Later, during the year 2015 the appellant was transferred and posted in CTD Unit at Police Station Kabal in District Swat, Malakand Region. The petitioner had since then been serving under Respondent No.3 while Respondent No.2 is the appellate authority and Respondent No.1 commands overall authority in respect of the parties, thus all are necessary party to the lis.
2. That the appellant always striven hard to discharge and fulfill the duties and tasks assigned with due diligence and dedication. Service record of the appellant is otherwise unblemished, clean and devoid of any adverse marking since nothing of the sort has ever been conveyed to the appellant in this respect.
3. That during May 2015 the appellant was informed by his family that his daughter fell suddenly ill and was in critical condition. Though the appellant sought leave of absence from the authorities but was blatantly refused any relief rather the authorities were not ready to even receive an application to the stated effect. As such forcing the appellant to leave the station to seek medical attendance for his ailing daughter since no male member in the family was available to even take the sick child to hospital.
4. That in consequence thereof the appellant was subjected to departmental action on the allegation of being absent from duties, and the proceedings culminated in award of punishment to the appellant of the kind Removal from Service vide order dated 31.8.2015. Copy of impugned order though sought was denied thus may very graciously be required from the respondents while copies of Charge-sheet, reply thereto, Final Show Cause notice and reply thereto are placed herewith as Annex-A.
5. That aggrieved from the order of the departmental authority the appellant moved an appeal with respondent No.2 seeking reinstatement in service which however, could not find favour with appellate authority and was dismissed / rejected vide order dated 8.12.2015. Copies of Departmental Appeal & Final Order passed thereon are placed herewith as Annexes B &C, respectively.
6. Hence, the instant appeal on the grounds, inter-alia, as under,

**Grounds:**

1. That the orders passed by departmental authority i.e Respdt: No.3, as impugned hereby, is discriminatory, arbitrary in nature, legally and factually incorrect, ultra-vires, void ab-initio against the rights of the



appellant and militates against the principles of natural justice thus is liable to be set-aside and nullified.

2. That the appellant is innocent and has been subjected to the penalty most harsh in nature for no fault on his part. Respondent No.3 failed to regulate the departmental inquiry in accordance with the law & procedures prescribed for the purpose and as such erred at the very outset of the proceedings thus causing grave miscarriage of justice as well as prejudice to the appellant in making his defense.
3. That it is a matter of record that the appellant has been vexed in clear defiance of the law and principle laid by the superior courts as well as the Tribunals as could be gathered from the facts and circumstances of the case.
4. That the respondents while adjudicating in the matter of departmental proceedings and the departmental appeal either disposed off the entire matter in a slipshod manner through the order impugned hereby or even failed to finally decide it in accordance with the principles of natural justice, thus the award of impugned punishment is patently unwarranted, illegal, ultra-vires, nullity in law and apparently motivated for extraneous reasons and thus is neither sustainable nor maintainable in law.
5. That the appellant has sufficient length of service rendered for the department. While adjudicating in the matter the departmental authorities utterly ignored not only the provisions of law on the point but the rights, too, of the appellant including fringe benefits and by imposing the penalty in defiance of law as aforesaid, deprived the family of the appellant of its only source of making the two ends meet.
6. That the order passed by respondent No.3 on holding of departmental proceedings including the order on award of punishment as well as the rejection of the departmental appeal, as impugned hereby, have infringed the rights and have caused grave miscarriage of justice to the appellant without any lawful excuse.
7. That while ignoring the rights of the appellant guaranteed by the constitution, the departmental authorities / respondents utterly failed to adopt a proper course & follow due procedure hence erred in disposal of the matter in accordance with the law and rules. The impugned order passed by Respondent No.3 and rejection of departmental appeal by Respondent No.2 thus lack in legal sanction and therefore, are liable to be set aside in the interest of justice.
8. That the petition of appeal / appellant is duly supported by law and rules formulated thereunder, besides the affirmation / affidavit annexed hereto.
9. That this Hon`ble Tribunal is competent and has ample powers to adjudge the matter under reference/appeal.



10. That the counsel for the appellant may very graciously be allowed to add to the grounds during the course of arguments, if need be.

**Prayer:**

In view of the fore mentioned submissions, it is very humbly requested that the impugned order dated 31.08.2015 passed by SP/CTD, Malakand Region at Swat, besides the order dated 28.12.2015 of Respondent No.2 may, on being declared as illegal, arbitrary, discriminatory, void ab-initio, ineffective and inoperable against the appellant, be very graciously set aside and the appellant may in consequence thereof be very kindly reinstated in service besides allowance of all back benefits. Grant of any other relief including costs, as may be deemed appropriate by the Hon'ble Tribunal is solicited, too.


Dated: 06.01.2016

Humble Appellant,



(Muhammad Imran) Appellant,

Through Counsel.



(Muhammad Ismail Alizai)  
Advocate High Court.

**AFFIDAVIT:**

Dated: 06 .01.2016.

I, Muhammad Imran, the appellant hereby solemnly affirm and declare on oath that contents of the petition are true and correct to the best of my knowledge, belief and per the official records. Also, that nothing is willfully kept or concealed from this Hon'ble Tribunal.



Deponent.

Oath Commissioner  
R.O. & A.C.  
Attested  
No. \_\_\_\_\_  
6/1/2016

FROM :

FAX NO. :

2 Aug. 2008 7:06AM P2

*Attended*


(6)

Muhammad Ismail Ailzei  
Advocate High Court

FAX NO. : 09467109531  
Dera Ismail Khan

29 Jan. 2008 11:38PM P1

FROM : CTD MKD SWAT



OFFICE OF THE:-  
SUPERINTENDENT OF POLICE,  
COUNTER TERRORISM DEPARTMENT,  
MALAKAND REGION AT SWAT.

No. 378 /CTD, MKD

Dated. 19/5 /2015.

To: The Superintendent of Police ,  
Counter Terrorism Department,  
DI Khan Region.

SUBJECT: SERVICE OF SHOW CAUSE NOTICE.

Memo:-

Attached here in with is a show cause notice for service upon  
Constable Muhammad Imran No.721 of Di. Khan. serving in CTD. MKD. at Swat, though  
CTD. DI. Khan. regarding his continuous absence from duty.

Receipt of the same may please be acknowledged further departmental  
proceedings at our end.

*Handwritten notes in Urdu:*  
نصیحتی نوٹ  
ڈی. اے. ڈی.  
ڈی. اے. ڈی.

Superintendent of Police,  
Counter Terrorism Department,  
Malakand Region at Swat.  
(Fazal Hadi)

Copy for information:-

1. Worthy deputy inspector general of Police, Counter Terrorism Department, Khyber Pakhtunkhwa at Peshawar.
2. Superintendent of Police, Admin Counter Terrorism Department, Khyber Pakhtunkhwa at Peshawar.

*Handwritten notes:*  
563-CTD  
21-5-15  
353-SA  
ps-CTD

*Handwritten notes:*  
نیکس نوٹس  
ڈی. اے. ڈی.

*Handwritten text:*  
For compliance the orders  
and report

*Signature and stamp:*  
Superintendent of Police  
CTD D.I. Khan

*Handwritten date:*  
21.5.15

*Handwritten notes and signature:*  
721  
CTD  
DI Khan  
22/5/2015

*Handwritten notes at the bottom:*  
نصیحتی نوٹ  
ڈی. اے. ڈی.  
ڈی. اے. ڈی.

FAX NO. :

2 Aug. 2008 7:04AM P1

7

FROM : CTD MKD SWAT

FAX NO. : 0946710053

28 Jan. 2008 11:38PM P2

**SHOW CAUSE NOTES**



You Constable Muhammad Imran No.721, were transferred on complaint to CTD MKD at Swat.


You constable deliberately and without prior permission or leave, left the station and absented yourself w.e.f 26-04-2015, till date.

You have been marked absent vide D.D.No.08-dated 26-04-2015, and informed accordingly to report back at your duty station in PS.CTD MKD at Swat. But inspite of the fact, you deliberately avoid to report back on your official duty.

You are therefore served with this notice to show the cause as to why you may not be subjected to a proper departmental action against you under police rules 1975, for omission to attend the duty, which may culminate at your termination.

Your reply shall reach this office within 07.Days of the receipt of this notice and to explain if you want to be heard in person or otherwise.

  
  
Muhammad Ismail  
Advocate High Court  
Dera Ismail Khan

  
Superintendent of Police,  
Counter Terrorism Department,  
Malakand Region at Swat.


Handwritten notes in Urdu at the bottom of the page, including the name 'محمد اسماعیل' (Muhammad Ismail) and other illegible text.

خانی! جوالم مشورہ جو بعضی مابینہ عطا فرمائی تشریح  
 کفر اور کفر کے لیے جو ہے اللہ عطا فرمائی پھر درستی کے لیے  
 میں جانتا ہوں اور جس کی درخواست رفقہ ہوتی ہے دو ماہ کے عطا  
 تشریح اور جانتا ہوں اور ان خاب لکھی ہے


اور عمل تھانہ کو اللہ کے دہرے ہونے کی کہ یہ لکھی ہے  
 نہ جگر مان نور ہو پھر اس میں نہ کسی عطا فرمائی جو رہا  
 گروں کے عارضہ میں نہ کسی عطا فرمائی ہے  
 یہ صرف شکوکہ شکایت کا مسلم نہ کہ شکایتی ہوا اور  
 صلح و خیر امکان سے اس میں نہ کسی عطا فرمائی ہے  
 وجہ یہ ہے کہ میں ہی اس میں نہ کسی عطا فرمائی ہے  
 بار بار یہ عطا فرمائی ہے اور یہاں عطا فرمائی ہے  
 یہی ماہ نور کی گروں کی تعلق ہے درستی کی عطا فرمائی  
 عطا فرمائی ہے اور عطا فرمائی ہے  
 شکوکہ شکایتی نہ کہ اس میں دو درستی ہونے  
 (کیوں) نہ کسی عطا فرمائی ہے اور اس میں نہ کسی عطا فرمائی  
 صلح و خیر عطا فرمائی ہے اور اس میں نہ کسی عطا فرمائی

Advocate  
 Advocate High Court  
 Dera Ismail Khan

اگرچہ ہوں۔ کہیں انام نہیں ہوا ہے  
 درکشان؟ اسناد و صلح اور صلح ہوا  
 شکایتی طور پر لگائی اور اس کا عمل فوری طور پر ہوگا  
 صلح ہوا اور صلح ہوا سے پورے سن لگے  
 تاج حکاموں جان پر دوران ادائیگی خالص منہجی  
 محض اپنے گھر کے اہل خانہ کی۔ کہہ رہی تھی جبراً ماہ نو روک  
 جامعہ خیرہ میں ہے اور آجھی پر گھڑا جاسی۔ اور  
 آجھی صلح صلح کے الہام کی رہنا ہے اس آجھی  
 مددگار بھی نہیں۔ تب میں بھول گیا، جو اس کو سمجھا  
 اور بہادر جہوری رخصت ہونے دو ماہ سے درخواست  
 خاب اس وقت درج کو بوجہ صلح صلح جھانسی  
 تدریج لگی۔ کہیں دو دن اصرار نے پورے ہوئے  
 شکایتی تاویل اور "Under watch" اکتانہ  
 سے پیش نظر ہی درخواست لینے کے اکر اور Forward  
 کرنے سے تدریج کار چلائی۔ اور باقی ہی پیش رو

Attested  
  
 Muhammad Small Atizai  
 Advocate High Court  
 Dera Ismail Khan.

مشورہ دیا۔ کہ جو جودہ جو کمال تکت تھے شخص  
 یوحانی سرپر اٹھالی پرستی۔ اور اپنی قسم  
 کی اپنی زلف و عہدہ میں۔ اور آپ زبردستی  
 بھیجی۔ اور خاب۔ وزیر صحت کے واضح احکامات  
 ان کے برخلافی۔ حاکم جو کمال شاید الی  
 نہیں۔ ان کے خاب۔ وزیر صحت کے واضح احکامات  
 جن انسانی خلیق اور مالک پرورد شہادت میں  
 اور یہ معاملہ کو یہ عاقلانہ نہیں کہ کسی  
 اور تھے بعض حروف کتب اور منان کا نوع  
 دیکھی نہ رہا کی۔ الی وزیر HC اور  
 سے یہ خدو سنت احکامات عاقلانہ  
 حکمی۔ حاکم صحت میں ہی لکڑی  
 کی وجوہات میں کہ عمر تک ماہ نور کی  
 اجاب نووی بیماری کی وجوہات ماننے اچھا ہے

Attest  
  
 Muhammad Ismail Khazai  
 Advocate High Court  
 Dera Ismail Khan



خا۔ / 540/ کھانہ بس اور خا۔ / کھانہ  
CTD / CTD

کے دفتر میں ایک ایسی درخواست ماننا عملی  
وقف صدقہ موجود ہے اور 87 مالہ بروکس  
میں بھی وقف صدقہ اور الفاضلہ بھرتی  
کے بھی میں لگائی ہے

ایک اسپتالی مودعا نذرش عفو میں لکھو جو  
میں میں ہے۔ ایک ہی درخواست وقف صدقہ  
وقف صدقہ منظور ہو جائے اور فوری طور پر

میں بنادہ ضلع DIX دیا جائے۔ نامہ گھوڑو  
لکھاری اور بیماری کا ازالہ کیا جائے اور مالک

پروسی کا بند کر دیا جائے۔ کافمنڈ خا۔  
DIX دہرا دل و خا۔ نامہ و ملینہ فرند  
CTD

ایک متروک امداد و مالی جائے۔ جس مالک بروکس  
15

محمد عمران خان 721 منصفہ کھانہ بس اور خا۔  
CTD

Attest  
Muhammad Ismail Ali  
Advocate High Court  
Dera Ismail Khan

فکریہ


(12)


## CHARGE SHEET.

- 1) I AMJAD KHAN, Superintendent of Police, CTD. Malakand Region Swat as a competent authority, hereby charge you Constable Imran No.721 on the following commission/ omission that:-
- i. You was transferred from CTD. DI Khan Region and posted to CTD. Malakand Region Swat on complaint basis as reported a habitual absentee by SP. CTD. DI Khan Region and kept under supervision.
  - ii. Besides, you have absented yourself intentionally and deliberately from your lawful duties without any kind of leave or permission from your superiors from the period of 26-04-2015 till date.
  - iii. A report to this effect has been lodged vide DD No.08 dated 26-04-2015.
  - iv. All this speak highly adverse on your part and is against Police Rules 1975 read with amendments 2014.

By reason of the above, you appear to be guilty of misconduct under Police Rules 1975 and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in the rules:-

2. You are, therefore required to submit your written defense within 7 days of the receipt of this Charge Sheet to the enquiry Officer as the case may be.
3. Your written defense, if any, should reach to the Enquiry Officer within the specified period failing which it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case, expert action will be taken against you.
4. You are also at liberty, if you wish to be heard in person.
5. Statement of allegation is enclosed.

  
Muhammad Ismail Aliza  
Advocate High Court  
Dera Ismail Khan

  
Superintendent of Police,  
Counter Terrorism Department,  
Malakand Region at Swat.  
(Fazal Hadi)

### SUMMARY OF ALLEGATIONS.

1. I, AMJAD KHAN, SUPERINTENDENT OF POLICE, CTD, MALAKAND REGION SWAT, am of the opinion that Constable Imran No.721 of this Unit presently posted at CTD. Staff Malakand has rendered himself liable to be proceeded against as he committed the following acts/ omission within the meaning of Police Rules, 1975 read with amendments 2014.

#### Statement of allegations.

He was transferred from CTD. DI Khan Region and posted to CTD. Malakand Region and kept under supervision. Besides he has absented himself intentionally and deliberately from his lawful duties without any kind of leave or permission from his superiors from the period of 26-04-2015 till date. A report to this effect has been lodged vide DD. No. 08 dated 26-04-2015. All this speak highly adverse on his part and is against Police Rules, 1975 read with amendments 2014.


2. For the purpose of scrutinizing the conduct of the said accused with reference to the above allegations, MR. Muhammad Wali Shah Khan (DSP Investigation) of this unit is nominated as enquiry officer, to conduct enquiry under the Rules.


3. The Enquiry Officers, shall in accordance with the provision of the Police Rules, 1975 provide reasonable opportunity of hearing to the accused, record finding and make within 15 days of the receipt of this order, recommendation as to punishment or other appropriate action against the accused.

No. 412 /CTD/MKD. Dated. 28/05 /2015.

Copy of above is forwarded to the:-

1. Worthy deputy inspector general of police, counter terrorism Department, for information.
2. Superintendent of police, counter terrorism Department, DI Khan Region to serve the charge Sheet with statement of allegations to the accused official and returned a copy of the same duly signed by him as taken of receipt.
3. Enquiry officer of this unit are directed to initiate departmental proceedings against the accused under the relevant Rules.
4. Constable Imran No.721 to appear before the enquiry officer on the date time and place fixed by the enquiry officer for the purpose of enquiry proceedings.

  
 Mukaramad Ismail Alizai  
 Advocate High Court  
 Dera Ismail Khan

  
 Superintendent of Police,  
 Counter Terrorism Department,  
 Malakand Region at Swat.  
 (Fazal Hadi)

جواب عالی :-

حوالہ مشمولہ چارج شیٹ نمبر 412

درجہ 5 28 مہر و من ہوں۔ شہادت سے

2015 / 23 کو میری بیٹی کا

بیمار ہو کر سے نے بیان پر جواب SHO

صاحب کو بھی لکھی گئی ہے درخواست پیش کیا گیا۔

چونکہ سے کسی کی شکایت پر بیان کرنا سفر ہو گیا۔

حکمی و سہ سے SHO صاحب نے فرمایا۔ آج آپ شکایت

نہی ہے۔ آج زیر تکرار ہے۔ لہذا آج

کی بھی سے آئے نہیں کر سکتا ہوں۔ غیر حاضر ہو کر

جائیں گے۔

جواب والد

میری بیٹی کا شدید بیمار تھی۔ مگر سے خون

آ گیا تھا۔ ادھر بھی نہیں تھی۔ میں اس پر شہادت کے

عالم سے از خود گھر چلا گیا۔ قبوری میں غلطی ہوئی ہے

سے ارکان بالا سے معاف فرما کر میری بیٹی

کا قری میرے رہی لیکن شمار کر کے جو با عدت

برہی کر سکتے ہیں۔ آج اور میرے کے دعا گو رہیں گے۔

پتھال کے کا عدت ہمراہ ہے۔ لہذا رہو اور غلط ہے۔

ارکان نمبر 721

FC. CTD. P.S. K. 29-5-2015

Muhammad Ismail Alizai  
Advocate High Court  
Dera Ismail Khan

No. 573 CTD.MKD

Dated 15-08-2015

(20)

**FINAL SHOW CAUSE NOTICE**

Where as you Constable Imran No.721 of CTD., are charged of having committed the following acts which constitute inefficiency

13-JAN-2001 21:41 FROM

TO 0966720129

P.01

(19)



**NOTICE:**

**OFFICE OF THE:-**

**SUPERINTENDENT OF POLICE,  
COUNTER TERRORISM DEPARTMENT  
MALAKAND REGION AT SWAT.**

No. 604A /CTD,MKD

Dated. 25-8 /2015.

**To: CONSTABLE IMRAN NO.721**

**SUBJECT: FINAL SHOW CAUSES NOTICE /ABSENCE (REMINDER)**

You constable Imran NO: 721 posted in CTD.MKD at Swat, deliberately and without prior permission of the authorities, absented yourself w.c.f 26-04-2015 to 26/5/2015 and 03-06-2015 till date

You were subjected to a departmental inquiry to show the reason of your absence, during the departmental inquiry you failed to justify your absence and resultantly were recommended for major punishment, with the directions to immediately report on duty. Even then you deliberately avoided to report on duty till date.

Now you have been served with final show case notice on 15-08-2015, but till today you failed to reply the notice or report on duty

It is therefore directed once again to report on duty as soon as possible otherwise an Ex-Porte action will be taken against you.

**Superintendent of Police,  
Counter Terrorism Department,  
Malakand Region at Swat.**  
(SIGNAL MKD)

NO: \_\_\_\_\_/CTD.MKD Dated: \_\_\_\_\_/2015.

Copy to: Superintendent of police counter terrorism DI khan region to server the notice accused official and returned a copy of the same duly signed by him and taken of receipt.

Handwritten notes in Urdu, including 'DFU' and '27-8-15'.

817/CTD  
27-08-2015

Muhammad Ismail Alizai  
Advocate High Court  
Dera Ismail Khan

**FINAL SHOW CAUSE NOTICE**

Where as you Constable Imran No.721 of CTD., are charged of having committed the following acts which constitute inefficiency and misconduct under the Rule- 3 (A) & (B) of the Government Servant (Efficiency & Disciplinary) Rules , 1975:-

1. You Constable Imran No.721 of CTD. was transferred on complaint to CTD. Malakand with the direction to be kept under watched.
2. You were posted in PS. CTD. MKD at Swat in Operation wing.
3. On 26-04-2015 vide DD Nu. 08 PS. CTD.MKD, You deliberately and without prior permission of the competent authority, absented Yourself w.e.f 26-04-2015 to 26-05-2015 for a period of 30 days.to the effect, a departmental inquiry was initiated against you.
4. That you were directed to resume the duty and explain the reasons of your absence from duty vide this office show cause, No.378 date 19-05-2015, but you failed to resume your duties.
5. That in response to above show cause notice No.378 dated 19-05-2015, you submitted a Medical Certificate form District HQ Hospital DI Khan.
6. In addition to the above, you again absented yourself from duty vide DD.No.20, PS CTD.MKD dated 03-06-2015 till date, without any intimation/ prior approval of the officer incharge and it seems that you are habitual of such unlawful and acts.
7. During the departmental inquiry you were found guilty of gross misconduct and inefficiency with lack of interest in your official duties and were recommended for major punishment vide this office letter No.466 dated, 23-06-2015.

2. whereas by reasons of above, you , Constable Imran No.721 of CTD. has been found guilty of misconduct and inefficiency under Rules -3(A)(B) of Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules 1975 and liable to disciplinary action under aforesaid rules which may lead to imposition of one or more of the penalties including major penalty of dismissal from service, as prescribed in Rule-4 (1)(b) of the Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules 1975.

3. Now therefor, you Mr. Imran No.721 of CTD. are served with this final show cause notice to shoe the cause within (7) days of the publication of this notice, as to why one or more penalties mentioned in Rule -4 of Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules 1975, on the above grounds.

4. Your written reply to the Show Cause Notice should reach the undersigned within 7 days of the Notice, failing which, ex-parte decision shall be taken against you.

5. You are also called upon to convey in writing, if you would like to be heard in person.

790/CTD DIKhan  
17-08-2015

(Amjad Ali)  
Superintendent of Police,  
Counter Terrorism Department,  
Malakand Region at Swat,  
(sohall MKD)

Constable Imran No.721  
CTD. MKD. Region.

Copy for information:

Worthy Deputy Inspector General of Police, Counter Terrorism Department,  
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.

Muhammad Ismail Akmal  
Advocate High Court  
Dera Ismail Khan

بحوالہ مشمولہ شوکار نوٹس گزارش بخضور انور ہے کہ اس سے قبل چارج شیٹ کے تفصیلی تحریری جواب میں واضح کر چکا ہوں اور اپنی معذوری کا کلمہ کھلا وضاحتی بیان بھی دے چکا ہوں جو کہ جناب حضور والا کو پیش نہیں کیا گیا ہے تاکہ میری روئیداد جناب والا شان کو پیش ہوتی اور صورت حال واضح ہو جاتی جس میں اس امر کا واضح تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ تاکہ مجھے ضلع DIK سے کوسوں دور دراز علاقہ میں شکایتی تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور ہر شخص کی انگلی میری جانب اٹھتی ہے کہ میں نے ایسا کونسا جرم یا فعل کیا ہے کہ گزشتہ 5/6 ماہ سے اتنا ذلیل و خوار کیا جا رہا ہوں اور چھوٹے چھوٹے کسٹن بچوں اور بیوی کو بے بارود دگاڑ جھوڑ چکا ہوں جبکہ اگر کسی وقت یہ امر مجبوری رخصت کی ضرورت پڑے تو میری درخواست کو اس بنا پر واپس میرے منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ میرا تبادلہ شکایتی اتنی دور دراز ہو کر زیر نگرانی بھی ہوں اور ہر آفیسر اس امر سے کتر اتنا اور جان چھڑاتا ہے۔ کہ شاید چشمی کی درخواست منظور کرنا تو درکنار میری چھٹی کو آگے انصران بالانک تک بھجوانے کو بھی تیار نہیں ہے جیسا کہ ایک قطعہ درخواست جناب SHO صاحب تھانہ کمل کے پاس موجود پڑی ہوئی ہے جس کی منظوری تو درکنار آگے ترسیل نہ ہونے کے باعث مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس ماسوائے غیر حاضری کے کوئی چارہ کار نہیں ہے اور یہ امر مجبوری گھر کی مجبوری معذوری اور کس لخت جگر کی بیماری کے باعث لاحق ہوئی ہے اور ساتھ ہی گزشتہ 06 ماہ سے اتنا ذلیل و خوار کیا جا رہا ہوں کہ ایک کترین عہدہ کے پولیس آفیسر کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جانا انتہائی ظلم کے مترادف ہے اور اب تو ایسی صورت حال آچکی ہے کہ بچی کی بیماری کے ساتھ ساتھ میں خود اور بیوی بھی اتنے بڑے کراسیس سے دوچار ہونے کی وجہ سے بیمار ہو چکے ہیں۔ میں بذات خود "سیم پیگ" بیماری کے باعث چلنے پھرنے اور سفر کے قابل نہیں رہا ہوں اور حسب مشورہ جناب ڈاکٹر صاحب کمل میڈیکل ریست پر ہوں اور نئے ریزھ کی ہڈی کے بڑے آپریشن کا مشورہ دیا جا رہا ہے جس کے لئے اخراجات کی استعداد بھی نہیں رکھتا ہوں۔ میڈیکل ریست کے چٹ ہاؤس جہاں جواب فائل شوکار نوٹس لف ہیں۔

براہ کرم میرے خیال میں گزشتہ 06 ماہ سے اس سے زیادہ اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ میں بوجہ بیوی بچوں کے بیمار اور عیال کی زندگی گزار رہا ہوں اور کوڑی کوڑی کا محتاج ہو چکا ہوں اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور میری روئیداد کو سینئر انصران تک نہیں پہنچایا جا رہا ہے اور خود اس قابل نہیں ہوں کہ اتنی دور دراز کا سفر طے کر کے خود حاضر ہوں جاؤں کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر صاحب نے چلنے پھرنے پر بھی پابندی عائد کی ہوئی ہے۔

لہذا میری انتہائی مودبانہ گزارش ہے کہ چارج شیٹ میں پیش کردہ غیر حاضری دراصل غیر حاضری نہیں ہے بلکہ بیوی ہے اور میڈیکل ریست ہے۔ جس پر میں میڈیکل رخصت کا حقدار ہوں جس قانون کا حوالہ میرے چارج شیٹ وغیرہ میں کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی اتنے کم ترین عہدہ کے پولیس آفیسر سے خوش اسلوبی سے ڈیوٹی لئے جانے کے لئے میرے ہمسر کے ضلع یا ماسوائے ضلع میں ڈیوٹی احسن طریقہ سے لی جاسکتی ہے۔ تاکہ علاج معالجہ کر کے بعد صحت یابی اپنی ڈیوٹی صحیح طریقہ سے سرانجام دے سکوں۔

لہذا میری انتہائی مودبانہ گزارش ہے کہ خدا ارادے سے حال پر رحم فرما کر میری رخصت میڈیکل منظور فرما کر آج ہی ضلع ٹرانسفر فرمایا جائے تاکہ میری آمد دیکھ کر میرے انصران بالانک پہنچ کر میرے ظلم کا ازالہ ہو سکے جواب فائل شوکار نوٹس گزارش ہے۔

(نوٹ:-) میڈیکل ریست کی دستاویزات کی فونوکاپی ہمراہ لف ہے جس کی تشکیل کی جاسکتی ہے۔

کانشیل عمران نمبر 721 متعینہ CTD تھانہ کمل ضلع سوات مالاکنڈ ریجن

Atmal  
Advocate High Court  
Dera Ismail Khan

(4)

(22)  
C

**ORDER**

This order is meant to dispose off the appeal preferred by Ex Constable Imran No 721 of this Unit against the major punishment of "Removed from Service" awarded to him by Superintendent of Police, CTD Malakand Region Swat vide his office order Endst: No 616/CTD dated 31.08.2015. Keeping the previous 14 bad record regarding habitual absentee of the above named Ex Constable, he was transferred / posted from CTD DI Khan Region to CTD Malakand Region Swat on complaint basis with the direction to be kept under watch. Later on, he again absented himself and does not obey the direction of the high ups to mend his way. In consequence he was proceeded departmentally on the following score of allegations that:

- i. You were transferred on complaint basis to CTD Malakand Region with the direction to be kept under watched.
- ii. You were posted in PS CTD Malakand at Swat in Operation Wing.
- iii. On 26.04.2015 vide DD No 08 PS CTD Malakand you deliberately and without prior permission of the competent authority, absented yourself w.e.f 26.04.2015 to 26.05.2015 for a period of 30 days.
- iv. You were directed to resume the duty and explain the reasons of your absence from duty vide this office Show Cause No 378 dated 19.05.2015 but you failed to resume your duties.
- v. In response to above show cause notice NO 378 dated 19.05.2015 you submitted a Medical Certificate from District HQ Hospital DI Khan.
- vi. In addition to the above, you again absented yourself from duty vide DD NO 20 PS CTD Malakand dated 03.06.2015 till date, without any intimation / prior approval of the officer incharge and it seems that you are habitual of such unlawful and acts.


On the recommendation of Enquiry officer, Superintendent of Police, CTD Malakand Region Swat awarded him major punishment of "Removal from Service".


The appellant Constable preferred the instant appeal against the punishment order. The undersigned gone through the enquiry file and perused his previous record and also heard him in person in orderly room but found the appeal unsatisfactory.

Therefore in exercise of power conferred upon me, I SALAHUDDIN KHAN, DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE CTD KHYBER PAKHTUNKHWA PESHAWAR, being a competent authority, rejected his appeal and the punishment awarded to him shall stand as it is.

OB NO 317/CTD

Dated 8/12/2015

  
Deputy Inspector General of Police,  
CTD, Khyber Pakhtunkhwa,  
Peshawar.

  
Muhammad Ismail Alizaf  
Advocate High Court  
Dera Ismail Khan

No 12255-4/EC/CTD

Dated Peshawar the 8-12/2015.

Copy of above is forwarded for information and necessary action to all concerned in CTD Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.



اپیل

7186

20-11-15

محرمیت جناب D.I.G / CTD جسپر بختوا خواہ پشاور

جناب عالی!

مواد باہر گزارش جیلہ مسائل CTD سٹاف ملائٹر میں ڈپٹی پر  
تعمیرات قضا مسائل ما تعلق ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے مسائل کی سبھی

بیماری اور خود بھی سپر بیگ میں مرغن میں مبتلا ہے اسوجہ سے

مسائل اپنی ڈپٹی سے غیر حاضر ہوا تھا اور بوجہ غیر حاضری

مسائل کو بحوالہ آرڈر نمبر 616 CTD سوات مورخہ 31/8/2015

سے سروس سے درخواست کیا گیا ہے مسائل ایک نہایت فریب خاں

سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی ذرا بے معاش نہیں ہو گا پھر بھی نہ رہے گا

اسوجہ سے مسائل بہت پریشان ہے اور زمین پر نشانی  
میں مبتلا ہے۔

بذرا بے درخواست استعمال نہ مسائل حالات پر رقم فرما کر  
مسائل کو معاف کرنا واپس نوکری پر بحال کرنا  
مسائل تا عیادت دعا گو رہے گا


OASI  
عین خواہش ہوگی

العارضی

D.I.G CTD  
20/11/15

محرمیت جناب D.I.G / CTD جسپر بختوا خواہ پشاور  
ملائٹر میں ڈپٹی پر  
31/8/2015  
19-11-2015

**OFFICE OF SUPERINTENDENT OF POLICE  
COUNTER TERRORISM DEPARTMENT MALAKAND REGION.**



**ORDER:-**

This order will dispose off the departmental enquiry against Constable Imran No.721 Posted in CTD, Malakand Region at Swat.

The mentioned Constable was transferred on complaint of SP. CTD. DIK for being a habitual absentee. He was posted at CTD.MKD. under watch and under close observation with the directions to abstain from the habit of absence and to be regular and punctual in future towards his duty.

Contrary to the above, he again absented himself from duty intentionally and deliberately without any kind of leave or permission from his superiors w.e.f 26-04-2015 to 26-05-2015 (30 days) a report to the effect was lodged vide DD. No. 08 dated 26-04-2015. and again vide DD.No.20 from 03-06-2015 till date (86 days continued) thus a total of (106 days).

He was issued Show Cause Notice followed by a Charge Sheet along with statement of allegations and Mr. Muhammad Wali Shah Khan (DSP Investigation) of this Unit, was assigned as enquiry officer. The enquiry officer conducted proper departmental enquiry against the delinquent officer and recorded the statements of all concerned. He was provided ample opportunity for his defence for the absence rendered by him. After conducting proper departmental enquiry, the Enquiry officer submitted his findings, wherein, he was recommended for major punishment. He was then issued a final Show Cause Notice to report back on duty or face the consequences. But till date he failed to report back on his duty.


It is patently evident that the delinquent Constable Imran No.721, is addicted to chronic absence and is not interested to continue his service. In view of the above, the undersigned is of considered opinion that there is no chance that Constable Imran No.721 may become an efficient Police Officer. His further retention in service is bound to affect the discipline of the entire force.

Therefore, in exercise of the power vested in the undersigned under Rules 2(iii) of Police Discipline Rule -1975 added with the authority vested in me vide order No.7473-84 dated 07-08-2015 of worthy Deputy Inspector General Counter Terrorism Department KPK. I Amjad Ali SP. Counter Terrorism Department Malakand Region, as a competent authority, am constrained to award him the Punishment of Removal from Service from the date of absence. He is therefore removed from service forth with.

Order announced:

OB No. 616/CTD Swat.


Dated 31/08-2015.

  
Superintendent of Police,  
Counter Terrorism Department,  
Malakand Region at Swat.  
(Fazal Hadi)


Copy for information to:

1. Worthy Deputy Inspector General of Police, Counter Terrorism Department Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. Senior Superintendent of Police (OPS), Counter Terrorism Department North Zone at Abbottabad.

CC / SRC / Acc / DMS

  
DIGI CTD  
31/8/15

# وکالت نامہ



مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے بیرونی وجود اپنی برائے پیشگی یا تعقیبہ مقدمہ *SA No D/20/16* **محمد عبدالغنی** صاحب کو حسب ذیل شرائط پر قبول و قبول ہو گیا۔ اور ہر وقت کے لئے مقدمہ دیکل صاحب موصوف کو اطلاق و تکلیف دیا گیا کہ وہ اپنی طرف سے پیشگی یا تعقیبہ مقدمہ ہوا۔ اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر میرے برخلاف ہو گیا۔ تو صاحب موصوف اس کے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے، نیز دیکل صاحب موصوف صدر مقام بکھری کے علاوہ کسی جگہ یا بکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ نیز دیکل صاحب موصوف صدر مقام بکھری کے علاوہ کسی جگہ یا بکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ اور مقدمہ صدر مقام بکھری کے علاوہ اور جگہ سمیت ہونے یا بروز تعطیل یا بکھری کے اوقات کے آگے پیچھے پیش ہونے پر مقرر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا نجات دہا کرنے کے بھی موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھ کو کل ساختہ پر داخل صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور قبول ہوگا۔ اور صاحب موصوف کو عرصی دہری، یا جواب دہری یا درخواست اجراء کے ذمگی و نظر ثانی اپیل و ہر قسم درخواست پر دستخط و تصدیق کرنے کا یہی اختیار ہوگا۔ اور کسی حکم یا ذمگی کرانے اور ہر قسم کارہ، پیہ وصول کرنے اور رسید دینے اور داخل کرنے اور ہر قسم کے بیان دینے اور اس پر غائی یا راشی نامہ و فیصلہ بر خلاف کرنے، اقبال دہری کا بھی اختیار ہوگا۔ اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیشگی مقدمہ مذکورہ بیرون از بکھری صدر بیرونی مقدمہ مذکورہ نظر ثانی اپیل و ہر قسم ذاتی مقدمہ یا مندرجی ذمگی یا طرف یا درخواست حکم انتہائی یا ترقی یا گرفتاری قبل از فیصلہ اجراء کے ذمگی بھی صاحب موصوف کو بشرط ادائیگی طیبہ عین بیرونی کا اختیار ہوگا اور تمام ساختہ پر داخل صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور قبول ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکورہ یا اسکے کسی جزو کی کاروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی اپیل یا گرفتاری یا دیگر معاملہ مقدمہ مذکورہ کسی دوسرے وکیل یا ہیر ستر کو اپنے بجائے یا اپنے امراء مقرر کریں۔ اور ایسے مشیر قانون کو بھی ہر امر میں وہی اور دیے اختیارات حاصل ہوں گے، جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں، اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جائد التواء پڑے گا، وہ صاحب موصوف کا حق ہوگا۔ مگر صاحب موصوف کو پوری فیس تاریخ پیشگی سے پہلے ادا نہ کروں گا۔ تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مقدمہ کی بیرونی نہ کریں اور ایسی صورت میں میرا کوئی مطالبہ کسی حکم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

گواہ شد

گواہ شد

گواہ شد

گواہ شد

گواہ شد

گواہ شد

باعت تحریر آئنگے

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے بیرونی وجود اپنی برائے پیشگی یا تعقیبہ مقدمہ *SA No D/20/16* **محمد عبدالغنی** صاحب کو حسب ذیل شرائط پر قبول و قبول ہو گیا۔ اور ہر وقت کے لئے مقدمہ دیکل صاحب موصوف کو اطلاق و تکلیف دیا گیا کہ وہ اپنی طرف سے پیشگی یا تعقیبہ مقدمہ ہوا۔ اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر میرے برخلاف ہو گیا۔ تو صاحب موصوف اس کے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے، نیز دیکل صاحب موصوف صدر مقام بکھری کے علاوہ کسی جگہ یا بکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ نیز دیکل صاحب موصوف صدر مقام بکھری کے علاوہ کسی جگہ یا بکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ اور مقدمہ صدر مقام بکھری کے علاوہ اور جگہ سمیت ہونے یا بروز تعطیل یا بکھری کے اوقات کے آگے پیچھے پیش ہونے پر مقرر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا نجات دہا کرنے کے بھی موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھ کو کل ساختہ پر داخل صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور قبول ہوگا۔ اور صاحب موصوف کو عرصی دہری، یا جواب دہری یا درخواست اجراء کے ذمگی و نظر ثانی اپیل و ہر قسم درخواست پر دستخط و تصدیق کرنے کا یہی اختیار ہوگا۔ اور کسی حکم یا ذمگی کرانے اور ہر قسم کارہ، پیہ وصول کرنے اور رسید دینے اور داخل کرنے اور ہر قسم کے بیان دینے اور اس پر غائی یا راشی نامہ و فیصلہ بر خلاف کرنے، اقبال دہری کا بھی اختیار ہوگا۔ اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیشگی مقدمہ مذکورہ بیرون از بکھری صدر بیرونی مقدمہ مذکورہ نظر ثانی اپیل و ہر قسم ذاتی مقدمہ یا مندرجی ذمگی یا طرف یا درخواست حکم انتہائی یا ترقی یا گرفتاری قبل از فیصلہ اجراء کے ذمگی بھی صاحب موصوف کو بشرط ادائیگی طیبہ عین بیرونی کا اختیار ہوگا اور تمام ساختہ پر داخل صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور قبول ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکورہ یا اسکے کسی جزو کی کاروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی اپیل یا گرفتاری یا دیگر معاملہ مقدمہ مذکورہ کسی دوسرے وکیل یا ہیر ستر کو اپنے بجائے یا اپنے امراء مقرر کریں۔ اور ایسے مشیر قانون کو بھی ہر امر میں وہی اور دیے اختیارات حاصل ہوں گے، جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں، اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جائد التواء پڑے گا، وہ صاحب موصوف کا حق ہوگا۔ مگر صاحب موصوف کو پوری فیس تاریخ پیشگی سے پہلے ادا نہ کروں گا۔ تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مقدمہ کی بیرونی نہ کریں اور ایسی صورت میں میرا کوئی مطالبہ کسی حکم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ہے۔ تاکہ سند رہے

مضمون وکالت نامہ کن لیا ہے۔ اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔

العبد \_\_\_\_\_ العبد \_\_\_\_\_ العبد \_\_\_\_\_

Accepted  
Mian Afza

Imman Jinnah  
appellant

Accepted  
Al Jinnah